

## ربیر انقلاب سے بوسنیا ہرزگوینیا کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ کی ملاقات – 26 Oct / 2016

ربیر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے بوسنیا ہرزگوینیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ باقر عزت بگوویچ میں بعض مغربی ممالک کی جانب سے دبشتگردی کی پرورش اور اختلافات پیدا کرنے والی سیاست سے مقابلے پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ آزاد ممالک کو چاہئے کہ وہ استکباری حکومتوں سے تعلقات منقطع کر کے اور انکی سیاست قبول نہ کر کے اختلافات کی آگ کو ٹھنڈا کریں۔

حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے تکفیریت اور دبشتگردی کی جاری لہر کے جواب یورپ تک پہنچ چکی ہے اور اس بات کا احتمال بھی ہے کہ یہ مستقبل میں مزید بدتر حالات پیدا کرے گی، کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مسئلے کی زادگاہ علی الظاہر عرب علاقے ہیں لیکن در حقیقت امریکی حکومت اور یورپ کے بعض ممالک اس فتنے کے وجود میں لانے کا اصل سبب ہیں۔

ربیر انقلاب اسلامی نے دبشتگردی کے خلاف مغربی فوجی اتحاد کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ ممکن ہے کہ یہ اتحاد بعض موارد میں دبشتگدوں کے ساتھ بعض موارد میں جنگ کے میدان میں بھی داخل ہوا ہو لیکن نہ عراق میں اور نہ ہی شام میں یہ حقیقی معنی میں دبشتگردی کو جڑ سے ختم نہیں کرنا چاہتے اور انکی بری اور شیطانی سیاست کی وجہ سے بشریت کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

آپ نے اس صورتحال کے علاج معالجے کو ان مشکلات کے موجودہ عوام ل کی فہم و شناخت اور ان کے حل کے مضموم ارادے کو قرار دیا اور دبشتگردی کے ایک جدید عامل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض ثروت مند اور طاقتور یورپی ممالک میں مسلمان نوجوانوں کی تذلیل کی وجہ سے داعش جیسے منحرف گروہوں سے ملحق ہونے کا زمینہ فراہم ہوتا ہے اور یہ ذلیل ہونے والے نوجوان یورپ واپس پلٹ کر بم دھماکے اور قتل و غارتگری کرتے ہیں۔

حضرت آیت اللہ خامنی ای نے اسی طرح ایران اور بوسنیا ہرزگوینیا کے مابین دیرینی تعلقات اور بوسنیا پر مسلط کرده جنگ کے سخت اور مشکل دور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک قوم کی حیات، رشد اور اسکی صلاحیتوں کے شکوفا ہونے کے لئے امن و امان ایک لازمی امر ہے۔

ربیر انقلاب اسلامی نے اپنے صدارتی دور میں بوسنیا ہرزگوینیا کے دورے اور وباں کی عوام کی جانب سے کئے گئے پرچوش استقبال اور اسی طرح اس ملک کے فقید سابق صدر مرحوم علی عزت بگوویچ کی قدردانی کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت بوسنیا ہرزگوینیا کی حکومت کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور دیگر میدانوں میں تعاون اور بین الاقوامی اداروں میں ہمابنگی کے سلسلے میں مکمل طور پر آمادہ و تیار ہے۔ اس ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی بھی موجود تھے۔ بوسنیا ہرزگوینیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ باقر عزت بگوویچ نے اپنے دورہ تہران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی عہدیداروں سے اپنے مذاکرات اور معابردوں کو کامیاب قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ دو ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات موثر اقتصادی تعاون اور دونوں ممالک کے فائدے کا سبب بنیں گے۔

صدر بگوویچ نے اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کو بوسنیا ہرزگوینیا کی سیاست کا اہم جز قرار دیا اور دبشتگردی کے خطرے سے مقابلے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطرناک بیماری حتیٰ مسجدوں پر حملے اور بے گناہ افراد کے قتل کا سبب بھی بنی ہے لیکن بوسنیا ہرزگوینیا کی تمام برگستہ شخصیات نے واضح طور پر تکفیریت سے برائت اور اس سے مقابلے کا اعلان کیا ہے۔

بوسنیا ہرزگوینیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ باقر عزت بگوویچ نے اسلامی ممالک میں فرقہ ورانہ فسادات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی وحدت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور فرقہ واریت کی وجہ سے



دفتر مقام معظم رهبری  
[www.leader.ir](http://www.leader.ir)

اسلامی ممالک اور معاشرے کمزور ہو جائیں گے۔